

مخالفین قرآن کا حال State of People Defying Qur'an

1. وَمِنْهُمْ أُمِّيُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمْثَارًا وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخُنُونَ ﴿٢﴾

اور بعض ان میں ان پڑھ ہیں کہ اپنے باطل خیالات کے سوا (اللہ کی) کتاب سے واقف ہی نہیں اور وہ صرف ظن سے کام لیتے ہیں ﴿٢﴾ (2: Al-Baqarah\78)

And there are among them illiterates, who know not the Book, but desires only and they do nothing but conjecture. ﴿٢﴾ (2: Al-Baqarah\78)

2. إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتُرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُمُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ ۗ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢﴾

جو لوگ (اللہ) کی کتاب سے ان (آیتوں اور ہدایتوں) کو جو اس نے نازل فرمائی ہے چھپاتے اور ان کے بدلے تھوڑی سی قیمت (یعنی دنیاوی منفعت) حاصل کرتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں محض آگ بھرتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے اللہ قیامت کے دن نہ کلام کرے گا اور نہ ان کو (گناہوں سے) پاک کرے گا۔ اور ان کے لئے دکھ دینے والا عذاب ہے۔ ﴿٢﴾ (2: Al-Baqarah\142)

Those who conceal Allah's revelations in the Book, and purchase for a small price, they eat nothing but fire into their bellies. Allah will not speak to them on the day of Resurrection, nor purify them: Grievous will be their penalty. ﴿٢﴾ (2: Al-Baqarah\174)

3. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴿٢﴾

یہ اس لئے کہ اللہ نے کتاب سچائی کے ساتھ نازل فرمائی۔ اور جن لوگوں نے اس کتاب میں اختلاف کیا وہ ضد میں (آکر نیکی سے) دور (ہو گئے) ہیں ﴿٢﴾ (2: Al-Baqarah\176)

That is because Allah revealed the Book in truth but those who disagree about the Book go far in opposition. ﴿٢﴾ (2: Al-Baqarah\176)

4. وَكَفَدْنَا لَكُمُ الْآيَاتِ بَيِّنَاتٍ ۖ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ ﴿٢﴾

اور ہم نے تمہارے پاس سبھی ہوئی آیتیں ارسال فرمائی ہیں، اور ان سے انکار وہی کرتے ہیں جو بدکار ہیں۔ ﴿٢﴾

(2: Al-Baqarah\99)

We have revealed to you clear verses and none disbelieves except

the transgressors. ﴿2: Al-Baqarah﴾ (99)

5. كَذٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ ۗ وَقَدْ آتَيْنٰكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا ۗ مَنْ اَعْرَضَ عَنْهُ فَاِنَّهٗ
يَجْعَلُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وِزْرًا ۗ خَلِدِيْنَ فِيْهِ ۗ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ حِمْلًا ۝

اس طرح پر ہم آپ سے وہ حالات بیان کرتے ہیں جو گزر چکے ہیں۔ اور ہم نے آپ کو اپنے پاس سے
نصیحت (کی کتاب) عطا فرمائی ہے ﴿﴾ جو شخص اس سے منہ پھیرے گا وہ قیامت کے دن (گناہ کا) بوجھ اٹھائے گا ﴿﴾
(ایسے لوگ) ہمیشہ اس (عذاب) میں (بتلا) رہیں گے اور یہ بوجھ قیامت کے روز ان کے لئے برا ہے۔ ﴿﴾

(20: p / 99-101)

Thus do We relate to you some news of what happened before and
verily We have given you a Reminder from Ourselves. ﴿﴾ whoever turns away
verily he will bear a burden on the day of Judgment; ﴿﴾ They will abide in
this and grievous will the burden be to them on that day, - ﴿﴾

(20: Ta Ha 99-101)

6. وَمَنْ اٰظَمَ مِنْ ذٰكِرٍ بِآيٰتِ رَبِّهٖ فَاَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدُهٗ ۗ اِنَّا جَعَلْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً
اَنْ يَّفْقَهُوْهُ ۗ وَفِيْ اٰذَانِهِمْ وَقْرًا ۗ وَاِنْ تَدْعُهُمْ اِلَى الْهُدٰى فَلَنْ يَّهْتَدُوْا اِلَّا اِلَّا اَبَدًا ۝

اور اس سے ظالم کون جس کو اس کے پروردگار کے کلام سے سمجھایا گیا تو اس نے اس سے منہ پھیر لیا۔ اور جو
اعمال وہ آگے کر چکا اس کو بھول گیا۔ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیئے کہ اسے سمجھ نہ سکیں۔ اور کانوں میں ثقل
(پیدا کر دیا ہے کہ سن نہ سکیں) اور اگر تم ان کو رستے کی طرف بلاؤ تو کبھی رستے پر نہ آئیں گے۔ ﴿﴾

(18: n / 54)

And who is more unjust than one who is reminded of the signs of his
Lord, but turns away from them, forgetting the (deeds) which his hands
have sent forth? Verily We have set veils over their hearts lest they should
understand this, and over their ears, deafness, if you call them to guidance,
even then they will never accept guidance. ﴿18: Al-Kahf﴾ (57)

7. وَمَنْ اٰظَمَ مِنْ اٰتٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ قَالَ اُوْحٰى اِلٰى وَاٰىءٍ شَيْءٍ ۗ وَمَنْ قَالَ سَاْنِزِلُ
مِثْلَ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ ۗ وَلَوْ تَرٰى اِذِ الظّٰلِمُوْنَ فِيْ عَمْرٰتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوْا اَيْدِيْهِمْ اَخْرَجُوْا
اَنْفُسَكُمْ ۗ اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُوْنِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آٰتِيْهِ
تَسْكُرُوْنَ ۝

اور اس شخص سے زیادہ ظالم ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ تہمت لگائے یا یوں کہے کہ مجھ پر وحی آتی

ہے حالانکہ اس کے پاس کسی بات کی بھی وحی نہیں آتی اور جو شخص یوں کہے کہ جیسا کلام اللہ نے نازل کیا ہے اسی طرح کا میں بھی لاتا ہوں اور اگر آپ اس وقت دیکھیں جب کہ یہ ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہونگے اور فرشتے اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہونگے کہ ہاں! اپنی جان نکالو۔ آج تم کو ذلت کی سزا دی جائیگی۔ اس سبب سے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ذمے جھوٹی باتیں لگاتے تھے اور تم اللہ تعالیٰ کی آیات سے تکبر کرتے تھے۔ ﴿6: 93/b﴾

Who can be more unjust than one who invents a lie against Allah, or says, "This has been revealed to me," while nothing has been revealed to him and he who says, "I can reveal the like of what Allah has revealed"? If you could see the unjust in the agonies of death - and angels stretch forth their hands,"Yield up your souls. This day you shall be rewarded a penalty of disgrace for that you used to tell lies against Allah without truth, and scornfully rejected of His signs!" ﴿6:Al-Ana'm\93﴾

8 . **وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَنْبَغُ مَا أَكْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْ كُنَّا آبَاءَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿٢٠﴾**

اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ جو (کتاب) اللہ نے نازل فرمائی ہے اس کی پیروی کرو تو کہتے ہیں (نہیں) بلکہ ہم تو اسی چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ بھلا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ سمجھتے ہوں اور نہ سیدھے رستے پر ہوں (تب بھی وہ انہیں کی تقلید کئے جائیں گے) ﴿2: 170﴾

When it is said to them: "Follow what Allah has revealed." They say: "No! We shall follow the ways of our forefathers." What! Even though their fathers were void of wisdom and guidance? ﴿2: Al-Baqarah\170﴾